

Psa

Chapter 136

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	הודו	לִיהוָה	כִּי	מָבֵהָ	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	شکر-کرو	بہوواہ-کا	کیونکہ	بہلا	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3034	H3068				H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس اور ہے، بہلا وہ کیونکہ کرو، شکر کا رب

2	הודו	לְאֱלֹהֵי	הָאֱלֹהִים	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	شکر-کرو	خداؤں-کے-خدا-کا	خداؤں	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3034	H0430	H0430		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا خدا کے خداؤں

3	הודו	לְאֲדֹנָי	הָאֲדֹנָיִם	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	شکر-کرو	خداوندوں-کے-خداوند-کا	خداوندوں	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3034	H0113	H0113		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا مالک کے مالکوں

4	לְעֹשֶׂה	נִפְלְאוֹת	נִדְלוֹת	לְבָדוֹ	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	کرنے-والے-کا	عجائبات	بڑے	اکیلا	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
		H6381		H0905		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بے کرتا معجزے عظیم ہی اکیلا جو

5	לְעֹשֶׂה	הַשָּׁמַיִם	בְּחַבְבוֹנָה	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	بنانے-والے-کا	آسمانوں-کو	سمجھ-سے	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
		H8064	H8394		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بنایا آسمان ساتھ کے حکمت نے جس

6	לְרַקַּע	הָאָרֶץ	עַל-	הַמַּיִם	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	پھیلانے-والے-کا	زمین-کو	پر	پانیوں	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H7554	H0776		H4325		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا لگا اوپر کے پانی سے مضبوطی کو زمین نے جس

7	לְעֹשֶׂה	אֲזָרִים	נְדִלִים	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	بنانے-والے-کا	روشنیاں	بڑی	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
		H0216			H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس کیا خلق کو روشنیوں کی آسمان نے جس

8	אֶת-	הַשֶּׁמֶשׁ	לְמִנְשַׁלַּת	בַּיּוֹם	כִּי	לְעוֹלָם	חַסְדּוֹ:
	کو	سورج	حکومت-کے-لیے	دن-میں	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
		H8121	H4475	H3117		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بنایا لئے کے کرنے حکومت وقت کے دن کو سورج نے جس

9	אֶת-הַיָּרֵחַ	וְכוכְבֵּים	לְמִשְׁשָׁלוֹת	בַּלַּיְלָה	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	کو چاند	اور-ستاروں-کو	حکومتوں-کے-لیے	رات-میں	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H0853	H3394	H3556	H4475		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بنایا لے کے کرنے حکومت وقت کے رات کو ستاروں اور چاند نے جس

10	לְמִכָּה	מִצְרַיִם	בְּכֹרֵיהֶם	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	مارنے-والے-کا	مصر-کو	اُن-کے-پہلوٹھوں-میں	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5221	H4714	H1060		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس ڈالا مار کو پہلوٹھوں میں مصر نے جس

11	וַיִּצְיָא	יִשְׂרָאֵל	מִתּוֹכָם	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	اور-نکالا	اسرائیل-کو	اُن-کے-درمیان-سے	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3318	H3478	H8432		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس لایا نکال سے میں مصریوں کو اسرائیل جو

12	בְּיַד	חִזְקָה	וּבְיָדוֹעַ	נְטוּיָה	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	باتھ-سے	مضبوط	اور-بازو-سے	پھیلائے-ہوئے	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3027	H2389	H2220	H5186		H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس کیا اظہار کا قدرت اور طاقت بڑی وقت اُس نے جس

13	לְגֹזֵר	יָם-סוּף	לְנֹפְרִים	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	چیرنے-والے-کا	سمندر	قلم	نکڑوں-میں	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H1504	H3220	H5488	H1506	H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا کر تقسیم میں حصوں دو کو قلم بحر نے جس

14	וְהַעֲבִיר	יִשְׂרָאֵל	בְּתוֹכוֹ	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	اور-گزارا	اسرائیل-کو	اُس-کے-درمیان-سے	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3478	H8432		H5769		

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا گزرنے سے میں بیچ کے اُس کو اسرائیل نے جس

15	וְנָעַר	פְּרַעְיָה	וַחֲיָלוּ	בְּיָם-סוּף	כִּי	لְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	اور-جھنکا	فرعون-کو	اور-اُس-کے-لشکر-کو	میں-سمندر	قلم	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5287	H6547	H2428	H3220	H5488	H5769	

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا کر غرق کر بہا میں قلم بحر کو فوج کی اُس اور فرعون نے جس

16	לְמוֹלִיךְ	עַמּוֹ	בְּמִדְבָּר	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	لے-جانے-والے-کا	اپنی-قوم-کو	بیابان-میں	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3212			H5769		

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس کی قیادت کی قوم اپنی میں ریگستان نے جس

17	לְמִכָּה	מִלְכִּים	גְּדִלִים	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	مارنے-والے-کا	بادشاہوں-کو	بڑے	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5221	H4428		H5769		

بے-ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دی شکست کو بادشاہوں بڑے نے جس

18	וַיַּהֲרֹג	מִלְכִּים	אֲדִירִים	כִּי	לְעוֹלָם	חֲסֵדוֹ:
	اور-قتل-کیا	بادشاہوں-کو	عظیم	کیونکہ	ہمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H2026	H4428	H0117	H5769		

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس ڈالا مار کو بادشاہوں ور طاقت نے جس

19	לְסִיחוֹן	מֶלֶךְ	הָאֱמֹרִי	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	سیحون-کو	بادشاہ	اموریوں-کا	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5511	H4428	H0567		H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس اُتارا گھاٹ کے موت کو سیحون بادشاہ کے اموریوں نے جس

20	וְלְעוֹנֹ	מֶלֶךְ	הַבְּשָׁן	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	اور-عوج-کو	بادشاہ	بسن-کا	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5747	H4428	H1316		H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا کر بلاک کو عوج بادشاہ کے بسن نے جس

21	וַיִּנְתֵּן	אֶרְצָם	לְנַחֲלָה	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	اور-دی	اُن-کی-زمین	میراث-کے-طور-پر	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5414	H0776	H5159		H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس دیا میں میراث کو اسرائیل ملک کا اُن نے جس

22	נַחֲלָה	לְיִשְׂרָאֵל	עַבְדָּו	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	میراث	اسرائیل-کے-لیے	اپنے-بندے	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5159	H3478	H5650		H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بنایا ملکیت موروثی کی اسرائیل خادم اپنے ملک کا اُن نے جس

23	נְשִׁבְשִׁבָּנוּ	זְכַר	לָנוּ	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	کہ-ہماری-پستی-میں	یاد-کیا	ہمیں	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H8216	H2142			H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس تھے گئے دب میں خاک ہم جب کیا خیال ہمارا نے جس

24	וַיַּפְרֹקֵנוּ	מִצָּרֵינוּ	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	اور-چھڑایا-ہمیں	ہمارے-دشمنوں-سے	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H6561			H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس تھے رہے کر ظلم پر ہم جو چھڑایا سے قبضے کے اُن ہمیں نے جس

25	נָתַן	לָחֵם	לְכֹל-	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	دینے-والا	روٹی	ہر	بشر-کو	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H5414	H3899	H3605	H1320	H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا اُس بے کرتا مہیا خوراک کو جانداروں تمام جو

26	הוֹדוּ	לְאֵל	הַשָּׁמַיִם	כִּי	לְעוֹלָם	חֶסְדָּו:
	شکر-کرو	خدا-کا	آسمانوں-کے	کیونکہ	بمیشہ-تک	اُس-کی-شفقت
	H3034	H0410	H8064		H5769	

بے۔ابدی شفقت کی اُس کیونکہ کرو، شکر کا خدا کے آسمان